

ESCAPE PROJECTS



سائنس کے نصاب کا جائزہ - والدین کے استعمال کے لیے



اردو - Urdu

STEM

میں بھر اور رابطے

STEM

میں تحقیقات اور موصلات کی مہارت
کوڈنگ اور ابھرتی بونئی صنعت و حرفت
استعمال، تعلقات اور شراکتیں۔

زمین اور خلائی نظام	ساخت اور اعمال	مادہ اور توانائی	حیاتیاتی نظام	
روزمرّہ اور موسمی ماحولی تبدیلی	روزمرہ کے مواد، اشیاء، اور ساخت	ہماری زندگی میں توانائی کا استعمال	جانداروں کی ضروریات اور خصوصیات	پہلی جماعت
ماحول میں ہوا اور پانی	سادہ مشینیں اور حرکت	مائعت اور ٹھوس مادے کی خصوصیات	جانوروں کی جسمانی ترقی اور تبدیلی	دوسری جماعت
ماحول میں مٹی	مضبوط اور مستحکم ساخت	قوت اور حرکت	پودوں کی جسمانی ترقی اور تبدیلی	تیسرا جماعت
پتھر، معدنیات، اور ارضیاتی عمل	مشینیں اور ان کے نظام	روشنی اور آواز	ربائش گابیں اور برادریاں	چوتھی جماعت
تووانائی اور وسائل کو بچانا	کسی چیز کی ساخت پراثر کرنے والی قوتیں	مادے کی خصوصیات اور تبدیلیاں	انسانی صحت اور جسمانی نظام	پانچویں جماعت
خلا	پرواز	برقی مظاہر، توانائی، اور آلات	حیاتیاتی تنوع	چھٹی جماعت
ماحول میں گرمی	ساخت کی شکل، عمل اور نقشہ	خالص مادے اور مرکب	ماحولیات میں تعاملات	ستوپیں جماعت
اپنی کے نظام	کام کرتے نظام	سیال	خلیات	اٹھویں جماعت

زمین اور خلائی سائنس	طبیعت	کیمیا	حیاتیات	نوین جماعت
دخلائی ریسرچ	بجلی کے اصول اور اطلاقات	مادے کی نوعیت	پائیدار ماحولیاتی نظام اور موسمیاتی تبدیلی	

یہ معلومات نیچے دئیے گئے ذریعے سے اخذ کی گئی ہے۔

The Ontario curriculum, grades 1-8: Science and technology. Toronto: Ministry of Education and Training (2022)

[Science and Technology \(gov.on.ca\)](http://Science and Technology (gov.on.ca))